



پاکستان کرکٹ بورڈ کا وفد آئندہ ہفتے بگٹی اسٹیڈیم کا دورہ کرے گا

- پنڈی اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی مرمت کا کام بھی جلد شروع کر دیا جائے گا
- اسٹیڈیمز کی مرمت کا کام پی سی بی اور نیسپاک کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے

لاہور، 19 جولائی 2017ء :

پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعلیٰ سطحی وفد 26 جولائی کو بگٹی اسٹیڈیم کوئٹہ کا دورہ کرے گا۔ وفد اسٹیڈیم کے اردگرد کمرشل سہولیات کے مواقع پیدا کرنے کا جائزہ لے گا۔

دورہ پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے نتیجے میں کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسٹیڈیم میں کمرشل سہولیات پیدا کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ فیملیز اور نوجوانوں کے لیے صحت مندانہ سرگرمیاں پیدا کرنے سے روزگار کے ساتھ ساتھ پی سی بی کی آمدن بھی بڑھائی جاسکتی ہے۔

بگٹی اسٹیڈیم کے اردگرد کمرشل سہولیات کے مواقع بڑھانے سے پیدا ہونے والی آمدن کو ریجنل کرکٹ کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا جو پی سی بی کی حکمت عملی کے تحت الحاق شدہ یونٹس کی صلاحیتیں اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں مدد دے گا۔

وفد میں وزارت بین الصوبائی رابطہ کے سیکرٹری، اکبر درانی، شاہ دوست اور پی سی بی کے نمائندگان شامل ہوں گے۔ بی او جی نے اپنے گذشتہ اجلاس میں ایک ورکنگ گروپ کا قیام کیا تھا جس میں ایم ڈی پی سی بی وسیم خان، چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد، چیف فنانشل آفیسر بدر منظور خان اور ڈائریکٹر انفراسٹرکچر اینڈ رئیل اسٹیٹ خیام قیصر شامل ہیں۔ ورکنگ گروپ کے متعدد نمائندگان بھی وفد میں شامل ہوں گے۔

دورے کے دوران، پی سی بی کے کنسلٹنٹ، نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان کے نمائندگان وفد کو بریفنگ دیں گے۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی، قذافی اسٹیڈیم لاہور اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی طرح بگٹی اسٹیڈیم بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ملکیت ہے۔

اس موقع پر سبحان احمد کا کہنا ہے " پی سی بی کا نظریہ صرف بلوچستان کی عوام کو کرکٹ کی بہتر سہولیات فراہم کرنا نہیں بلکہ ان کے لیے روزگار، آمدن اور تفریح کے مزید مواقع پیدا کرنا بھی ہماری ترجیح ہے۔ "

" بگٹی اسٹیڈیم کی مرمت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا۔ اب دوسرے مرحلے میں اسے کمرشلائز کیا جا رہا ہے۔ یہ قدم بگٹی اسٹیڈیم کے وسائل مکمل کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جو خطے میں کرکٹ کی سرگرمیاں بڑھانے کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کے لیے روزگار اور آمدن کے ذرائع بھی بڑھائے گا۔ "

سبحان احمد کا مزید کہنا ہے " پی سی بی کو یقین ہے کہ اس نئی حکمت عملی سے مقامی فیملیز کو بگٹی اسٹیڈیم لانے میں مدد ملے گی۔ "

دوسری جانب ملک بھر کے اسٹیڈیمز کے انفراسٹرکچر میں جدت لانے کے لیے پی سی بی کے ویژن کے مطابق اعلیٰ افسران پر مشتمل ایک ٹیم نے 18 جولائی بروز جمعرات کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ ٹیم شائقین ، کھلاڑیوں ، میچ آفیشلز ، میڈیا رائٹ ہولڈرز ، میڈیا نمائندگان اور کمرشل پارٹنرز کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لے گی۔

اس دورے کا مقصد اسٹیڈیم کو نیسپاک نمائندگان کے باہمی تعاون سے مکمل کر کے سیزن 2019 تا 2020 سے قبل مرمتی کام مکمل کرنا ہے۔

پی سی بی ایونٹس ٹیم جلد ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ بھی کرے گی۔ جس کے بعد ٹیم اپنی سفارشات مرتب کر کے نیسپاک کے حوالے کرے گی تاکہ پی سی بی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا یہ عمل بڑے میچز سے قبل مکمل کر لیا جائے۔

پی سی بی کی جانب سے انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کا یہ عمل درجہ بدرجہ جاری ہے۔ جو قذافی اسٹیڈیم لاہور کی مرمت سے شروع ہونے والا یہ عمل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی مرمت سے مکمل ہوگا۔

- ENDS -

Media contacts:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4